



پیش کیے جانے والے منصوبوں میں سے انتخاب کرنا:

بر ضلع کے پاس تجویز کردہ اقدامات کو انجام دینے کے لیے اپنا مخصوص بجٹ بے اور اس کے لیے حتمی فیصلہ وہاں رہنے والے شہریوں کا ہو گا۔ بارسیلونا میں رجسٹر یا ایمپادرونار افراد جن کی عمر 14 سال سے زائد ہو وہ ان تجاویز کی حمایت کر سکتے ہیں اور دو اضلاع، اپنے اور مزید ایک ضلع کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

منصوبے پیش کرتے ہوئے:

ایسے منصوبے پیش کیے جا سکتے ہیں جو وقت کے لحاظ سے پائیدار ہوں، مثال کے طور پر:

• چھوٹے پیمانے کی سہولیات کی تعمیر، جیسے کھیل کے میدان یا سبزہ زار مقامات۔

• موجودہ سہولیات میں بہتری لانا، جیسے کھیل کی سہولیات میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چینجنگ روم یا کاسال دے باریو میں کمپیوٹر روم قائم کرنا۔

• عوامی مقامات پر بہتری، جیسے گلیوں کی مرمت، چوراہوں کی تعمیر نو، پارکوں یا سبزہ زاروں میں بہتری لانا، کنوں کے تفریحی مقامات کی توسیع یا گلیوں کی روشنیوں میں بہتری لانا۔

• بنیادی ڈھانچہ اور شہری فرنیچر، جیسے سرکاری مقامات یا بچوں کے کھیلنے کے مقامات پر بینچ، میکانی سیڑھیاں یا لفٹیں۔

کیسے شامل ہونا ہے؟



شہری باغیچہ - Colònia Casanell

آگے بڑھیں، اپنے محلے کے لیے کیا چاہتے ہیں؟

ہمارے پاس ایک خاص موقع ہے، شہر میں پہلی بار ایک براہ راست جمہوری عمل۔ بارسیلونا شہر کے باسی فیصلہ کرتے ہیں کہ میونسپل بجٹ کے ایک حصے کی سرمایہ کاری کیسے کی جائے۔

فیصلے صرف شہریوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ایسے ابتدائی اقدامات جو تکنیکی شرائط کو پورا کریں اور جنہیں شہریوں کی جانب سے زیادہ ووٹ ملیں انہیں عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ چوراہوں کی شکل و صورت بدل دی جائے گی، محلوں کے لیے نئی جگہیں بنائی جائیں گی یا ہماری گلیوں کو بہتر کیا جائے گا۔

بیٹھیں، تجویز کریں، فیصلہ کریں۔

شہری شمولیت کا پہلا بجٹ

آئیونتامینتو بارسیلونا پہلی بار شہر میں ایسے بجٹ کو فروغ دے رہی ہے جس میں شہری شامل ہیں۔ میونسپل بجٹ میں 75 ملین مختص کیے گئے ہیں تاکہ یہاں کے شہری فیصلہ کریں کہ اس رقم کی سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے۔

شمولیت کا بجٹ اگلے چار سال میں ترجیحات، مقاصد اور کارروائیوں کی مزید وسیع تعریف کا حصہ ہے۔ پورے شہر کے لیے میونسپل منصوبہ (PAM) اور اضلاع کے لیے دس مخصوص منصوبے (PAD) ایسی دستاویزات ہیں جنہیں شہریوں کی شرکت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔



معزز شہری،

DECIDIM.
BARCELONA



کیلنڈر

یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سے منصوبوں پر کام کیا جائے، شہری، فروری اور جون 2020 کے درمیان شرکت کر سکتے ہیں۔

• بحث مباحثہ اور منصوبوں کی پیشکش: 3 فروری تا 27 مارچ۔

• ترجیح: ہر منصوبے کی حمایت کو شمار کیا جائے گا تاکہ فیصلہ اور 20 تا 30 اپریل رائے دہی کے مرحلے میں شامل ہوں۔

• حتمی رائے دہی: 26 مئی سے 7 جون۔

تمام تجدید شدہ معلومات، پلیٹ فارم decidim.barcelona پر موجود ہیں۔



Escola Tibidabo

شرکت کے مقامات

Decidim.Barcelona

شرکت کے پلیٹ فارم decidim.barcelona کے ذریعہ سرمایہ کاری کے منصوبے پیش کیے جا سکتے ہیں اور پیش کردہ منصوبوں کی پیش رفت کی پیروی کی جا سکتی ہے۔

حاضر ملاقاتیں

تمام اضلاع میں حاضر ہو کر گفتگو اور سیشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلیوں، چوراہوں اور محلے کی سہولیات میں چلتے پھرتے شرکت کے مقامات موجود ہیں۔



Castellers de Santis